

# Psa

## Chapter 47

Urdu Interlinear

Reference: Urdu Geo Version

1 **אֱלֹהִים** **הָרִיעוּ** **כָּרָה** **תִּקְעוּ-** **הָעִמִּים** **כָּל-** **מִזְמֹר:** **קָרוּחַ** **לְבַיִת-** **אֱלֹהִים** **1**  
خوشی سے-للكارو خدا-کے لئے  
H0430 H7321 H3709 H8628 H3605 H4210 H7141 H5329

**בְּקוֹל** **רְנָה:**  
آواز سے خوشی-کی  
H7440

کرو!سرائی مدح کی اللہ کر لگا نعرے کے خوشی بجاؤ! تالی قومو، تمام اے لئے۔ کے راہنما کے موسیقی زبور۔ کا اولاد کی قورح

2 **כִּי-** **יְהוָה** **עָלֶינוּ** **נֹרָא** **מְלֹךְ** **גָּדוֹל** **עַל-** **כָּל-** **הָאָרֶץ:** **2**  
کیونکہ یہوواہ علی بیت-ناک بادشاہ بڑا پر ساری زمین  
H3068 H4428 H3372 H0776 H3605

ہے۔بادشاہ عظیم کا دنیا پوری وہ ہے، پُر جلال تعالیٰ رب کیونکہ

3 **יְדָבֵר** **עִמָּם** **תַּחֲתֵינוּ** **וְלֵאמִים** **תַּחַת** **רַגְלֵינוּ:** **3**  
ماتحت-کرتا ہے قوموں-کو ہمارے-نیچے اور-قوموں-کو نیچے ہمارے-پاؤں  
H1696 H8478 H3816 H8478 H7272

دیا۔رکھ تلے پاؤں ہمارے کو اُمتوں دیا، کر تحت ہمارے کو قوموں نے اُس

4 **יְבַחֲר-** **לָנוּ** **אֶת-** **נַחֲלָתָנוּ** **אֶת** **נַאֲזֹן** **יַעֲקֹב** **אֶשֶׁר-** **אָהַב** **סֵלָה:** **4**  
چنتا ہے ہمارے-لئے کو ہماری-میراث کو فخر یعقوب-کا جس سے محبت-کی سلام  
H0977 H0853 H5159 H0853 H1347 H3290 H0157 H5542

(سلام) باعث کا فخر لئے کے یعقوب بندے پیارے کے اُس جو کو اُسی لیا، چن کو میراث ہماری لئے ہمارے نے اُس

5 **עָלָה** **אֱלֹהִים** **בְּתוֹרֵעָה** **יְהוָה** **בְּקוֹל** **שׁוֹפָר:** **5**  
چڑھا خدا للکار سے یہوواہ آواز سے نرسنگے-کی  
H5927 H0430 H8643 H3068 H7782

رہا۔بجتا نرسنگا ساتھ ساتھ تو گیا چڑھ پر بلندی رب ہوا، بلند نعرہ کا خوشی ساتھ ساتھ تو فرمایا صعود نے اللہ

6 **זָמְרוּ** **אֱלֹהִים** **זָמְרוּ** **זָמְרוּ** **לְמִלְכֵנוּ** **זָמְרוּ:** **6**  
گائے خدا-کی گائے گائے ہمارے-بادشاہ-کی گائے  
H2167 H0430 H2167 H2167 H4428 H2167

کرو!سرائی مدح کی بادشاہ ہمارے کرو، سرائی مدح کرو! سرائی مدح کی اللہ کرو، سرائی مدح

7 **כִּי** **מְלֹךְ** **כָּל-** **הָאָרֶץ** **אֱלֹהִים** **זָמְרוּ** **מִשְׁכִּיל:** **7**  
کیونکہ بادشاہ ساری زمین-کا خدا گائے سمجھ-سے  
H4428 H3605 H0776 H2167 H0430

کرو۔ستائش کی اُس کر گا گیت کا حکمت ہے۔ بادشاہ کا دنیا پوری اللہ کیونکہ

8 **מְלֹךְ** **אֱלֹהִים** **עַל-** **גּוֹיִם** **אֱלֹהִים** **וַיָּשֶׁב** **עַל-** **כִּסֵּא** **קְדָשׁוֹ:** **8**  
بادشاہت-کرتا ہے خدا پر قوموں پر بیٹھا ہے تخت پر اپنی-قدسیت-کے  
H0430 H3427 H0430 H3678 H6944

ہے۔بیٹھا پر تخت مُقَدَّس اپنے اللہ ہے، کرتا حکومت پر قوموں اللہ

מָאֵד	אֶרֶץ	מְנַיִי	לֵאלֹהִים	כִּי	אֲבְרָהָם	אֱלֹהֵי	עַם	נִאֶסְפוּ	אֵלָיוֹם	נְדִיבֵי
بہت	زمین-کی	ڈھالیں	خدا-کے-لئے	کیونکہ	ابراہام-کے	خدا-کی	قوم	جمع-ہوئے	قوموں-کے	سردار
<a href="#">H3966</a>	<a href="#">H0776</a>	<a href="#">H4043</a>	<a href="#">H0430</a>		<a href="#">H0085</a>	<a href="#">H0430</a>		<a href="#">H0622</a>		<a href="#">H5081</a>
										נְעֻלָּה:
										بلند-ہے
										<a href="#">H5927</a>

بے-سر بلند ہی نہایت وہ ہے۔ مالک کا حکمرانوں کے دنیا وہ کیونکہ ہیں، گئے ہو جمع ساتھ کے قوم کی خدا کے ابراہیم شرفا کے قوموں دیگر